



اب تمہارا خرچ اس کا ذمہ نہیں

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ابو عمرو بن حفص نے انہیں طلاق بتائی (تیسری طلاق) دی، اور وہ خود غیر حاضر تھیں، (اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے تین طلاقیں دیں) ان کا وکیل نے ان کی طرف سے کچھ جو بھیجا، تو وہ اس پر ناراض ہوئیں، اس (وکیل) نے کہا: اللہ کی قسم! تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں ہے اور رسول اللہ کے پاس آئیں، اور یہ بات آپ کو بتائی ہے آپ نے فرمایا: ”اب تمہارا خرچ اس کا ذمہ نہیں ہے“ اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ام شریک رضی اللہ عنہا کا گھر میں عدت گزاریں، پھر فرمایا: ”اس عورت کے پاس میرے صحابہ آئے جاتے ہیں، تم ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں عدت گزار لو، وہ نابینا آدمی ہیں، تم اپنے کپڑے بھی اتار سکتی ہو تم جب عدت گزار لو تو مجھے بتانا“ جب میں (عدت سے) فارغ ہوئی، تو میں نے آپ سے بتایا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ عنہم دونوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس پر رسول اللہ نے فرمایا: ”ابو جہم تو اپنے کندھے سے لٹھی نہیں اتارتے، اور معاویہ تو وہ بے بات فقیر ہیں، اس کے پاس کوئی مال نہیں، تم اسامہ بن زید سے نکاح کرلو“ میں نے اسے ناپسند کیا، آپ نے پھر فرمایا: ”اسامہ سے نکاح کرلو“ تو میں نے ان سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس میں خیر ڈال دی اور اس کی وجہ سے مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو طلاق بتائی دی، یہ ان کی طرف سے اپنی بیوی کو آخری طلاق تھی اور مبتوتہ (جس عورت کو شوہر نے طلاق بتائی دی ہو) کے لیے شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہوتا، پھر بھی ابو عمرو رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے جو بھیجا، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خیال تھا کہ عدت کے دوران ابو عمرو پر ان کا نفقہ واجب ہے، اس لیے انہوں نے اس جو کو کم سمجھا اور ناپسند کیا وکیل نے قسم کھائی ہم پر آپ کا کوئی حق لازم نہیں ہے چنانچہ انہوں نے اس کی شکایت رسول اللہ سے کی تو آپ نے انہیں بتایا کہ ابو عمرو پر تمہارا نہ تو نفقہ (خرچ) ہے اور نہ ہی رہائش کی ذمہ داری ہے، اور انہیں حکم دیا کہ وہ ام شریک کے گھر میں عدت گزاریں جب نبی کے کو یہ بات یاد آئی کہ ام شریک کے ہاں تو صحابہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو انہیں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں عدت گزارنے کو کہا کیوں کہ وہ نابینا ہیں، ان کا اپنے کپڑے نکال رکھنے کو نہیں دیکھیں گے، اور انہیں یہ حکم دیا کہ عدت کے ختم ہوجانے پر آپ کو خبر دیں جب انہوں نے اپنی عدت گزار لی تو معاویہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہما نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا چنانچہ انہوں نے نبی سے اس کے متعلق مشورہ کیا چوں کہ جس سے مشورہ لیا جائے اسے مشورہ لینے کے حق میں خیر خواہ ہونا چاہیے اس لیے آپ نے دونوں میں کسی سے بھی شادی کرنے کا مشورہ نہیں دیا اس لیے ابو جہم عورتوں پر بے بات سخت گیر تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ فقیر تھے ان کے پاس مال نہیں تھا، اس لیے آپ نے انہیں اسامہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا جسے پہلی دفعہ انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے کہ اسامہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تاہم انہوں نے نبی کے حکم ماننے کو بالآخر منظور کر لیا، جس کی برکت کے نتیجے میں (لوگ) ان پر رشک کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان (کے نکاح) میں خیر کثیر رکھ دیا۔



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

